



## میں نہ دنیا میں اس گناہ کے معاملہ میں تیری ستر پوشی کی اور آج میں اسے تیرے لیے معاف کرتا ہوں

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”مومن کو قیامت کے دن اس کے رب کے قریب لایا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پہلو میں لے لے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے ہوئے پوچھے گا: کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا کہ اے میرے رب! مجھے یاد ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں اس گناہ کے معاملہ میں تیری ستر پوشی کی اور آج میں اسے تیرے لیے معاف کرتا ہوں پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا“

[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ عز وجل قیامت کے دن مومن بندے کو قریب کرے گا، اُسے میدانِ حشر میں موجود لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رکھتے ہوئے اس سے اس کے گناہوں اور معاصی کا پوشیدہ طور پر اقرار کرائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا تو اس گناہ کو جانتا ہے؟ کیا تو اُس گناہ کو جانتا ہے؟ وہ ان کا اقرار کر لے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہاری ستر پوشی کی اور انسانوں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کیا میں آج بھی ان سے تمہاری ستر پوشی کروں گا اور تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دوں گا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4242>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

